

## ریاست نیویارک میں ڈپلومہ کے لیے شرائط جن کا اطلاق گریڈ 9 تا 12 کے تمام طالب علموں پر ہوتا ہے

### کریڈٹ شرائط

(ان کا اطلاق ہمہ قسمی ڈپلومہ پر ہوتا ہے: مقامی، ریجنٹس اور ایڈوانسڈ ڈیزائنیشن کے حامل ریجنٹس

کم از کم کریڈٹس	کریڈٹس
انگریزی	4
معاشرتی علوم تقسیم حسب ذیل ہے:- امریکہ کی تاریخ (1) عالمی تاریخ اور جغرافیہ (2) حکومت میں شرکت (1/2) لائف سائنس یا فزیکل سائنس (1/2) معاشریات (1/2)	4
سائنس تقسیم حسب ذیل ہے:- لائف سائنس (1) فزیکل سائنس (1) لائف سائنس یا فزیکل سائنس (1/2)	3
ریاضی	3
دنیا کی زبانیں	1 <sup>(**)</sup>
بصری فنون، موسیقی، رقص اور/یا تھیٹر	1
فزیکل ایجوکیشن (پر سمسٹر میں شرکت ضروری)	2
صحت	1/2
اختیاری	3 1/2
کل	22

(\*\*) معذوری کا شکار طالب علم کو دنیا کی زبانیں (World Languages) کے کریڈٹس کے ایک یونٹ سے استثنیٰ دیا جاسکتا ہے اور ایسا ہونے کی صورت میں اس چیز کی ان کی IEP پر نشاندہی کی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود، گریجویٹیشن کے لیے ضروری ہے وہ کریڈٹس کے 22 یونٹ حاصل کریں۔

### 1. راستے (پاتھ ویز)

طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ:

- کسی دوسرے کورس (ریاضی، سائنس، یا معاشرتی علوم) کا اضافی ریجنٹس امتحان پاس کرے؛ یا
- کسی دوسرے کورس (انگریزی، ریاضی، سائنس، یا معاشرتی علوم) کا متبادل امتحان پاس کرے جو محکمہ کی طرف سے منظور شدہ ہو؛ یا
- محکمہ کی طرف سے منظور شدہ جانچ (آرٹس/فنون، CDOS، دنیا کی زبانیں) وغیرہ میں پاس کریں؛ یا
- محکمہ کی طرف سے منظور شدہ CTE پروگرام بشمول تین حصوں پر مشتمل تکنیکی جانچ کامیابی سے پاس کریں؛ یا
- کو کامیابی سے مکمل کریں۔

[requirements for earning the CDOS Commencement Credential](#)

حوالہ [Department Approved Alternative Examinations](#) اور [Multiple Pathways](#)

### 2. ایپلین

ایپلین کا انحصار مقامی ضلع کی منظوری پر ہے۔ حوالہ کے لیے [Appeals, Safety Nets, and Superintendent Determination](#).

### 3. خصوصی توثیق

آئرن: ایک طالب ریجنٹس ڈپلومہ یا ایڈوانسڈ ڈیزائنیشن کے حامل ریجنٹس ڈپلومہ کے لیے ریجنٹس امتحانات میں اوسطاً 90 مارکس حاصل کرتا ہے۔ ریجنٹس امتحانات کے متبادل کے طور پر محکمہ سے منظور شدہ دو متبادل استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ مقامی طور پر تیار کیا گیا چیک پوائنٹ B امتحان جو دنیا کی زبانوں (World Languages) کے لیے ہے، کو گنتی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ ریاضی اور/یا سائنس میں مہارت: ایک طالب علم ایڈوانسڈ ڈیزائنیشن کے حامل ریجنٹس ڈپلومہ کے حوالے سے تمام شرائط پر پورا اترتا ہے اور ریاضی اور/یا سائنس کے ریجنٹس امتحانات میں 85 یا اس سے بہتر سکور حاصل کرتا ہے۔ تکنیکی توثیق: ایک طالب علم لوکل ڈپلومہ، ریجنٹس ڈپلومہ یا ایڈوانسڈ ڈیزائنیشن کے حامل ریجنٹس ڈپلومہ کے حوالے سے شرائط پر پورا اترتا ہے اور محکمہ کی طرف سے منظور شدہ CTE پروگرام بشمول تین حصوں پر مشتمل تکنیکی جانچ کو کامیابی سے مکمل کرتا ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے جن طالب علموں کو امتحان سے استثنیٰ دیا گیا تھا اور انہیں خصوصی توثیق دینے کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے حوالہ ملاحظہ فرمائیں [NYS Diploma/Credential Requirements and Seals webpage](#)

### 4. دنیا کی زبانیں (World Languages) کے حوالے سے استثنیٰ

معذور طالب علموں کو دنیا کی زبانوں (World Languages) میں کریڈٹس کے مطلوبہ یونٹس سے استثنیٰ دیا جاسکتا ہے بشرطیکہ ان کے IEP اس کی نشاندہی کی گئی ہو لیکن اس کے باوجود انہیں گریجویٹیشن مکمل کرنے کے لیے کریڈٹس کے 22 یونٹ درکار ہوں گے۔ وہ طالب علم جو ایڈوانسڈ ڈیزائنیشن کا حامل ریجنٹس ڈپلومہ حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اس مقصد کے لیے جانچ کی مطلوبہ شرائط پر پورا اترنے کے لیے World Languages کے بدلے میں فنون (Arts) یا CTE میں 5 یونٹ پر مشتمل ترتیب مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

### 5. لوکل ڈپلومہ کے حوالے سے سپر انٹنڈنٹ ڈیٹرمینیشن

معذور طالب علم جو مختلف حفاظتی شرائط کے ذریعے لوکل ڈپلومہ حاصل نہیں کر سکتے وہ مخصوص شرائط کے تحت لوکل ڈپلومہ کے لیے سپر انٹنڈنٹ ڈیٹرمینیشن کے اہل ہوں گے۔ حوالہ کے لیے ملاحظہ فرمائیں: [Appeals, Safety Nets, and Superintendent Determination](#).

### 6. کورونا وبا کی وجہ سے صحت عامہ کی ہنگامی صورت حال کی بنا پر استثنیٰ

وہ طالب علم جنہیں کورونا وبا کی وجہ سے اس طرح کے مخصوص امتحانات پاس کر کے کسی ڈپلومہ کی جانچ کی شرائط پورا کرنے سے استثنیٰ دیا گیا، انہیں یہ امتحانات نہیں دینے ہوں گے۔ حوالہ کے لیے درج ذیل اکثر پوچھے جانے والے سوالات ملاحظہ فرمائیں: [June/August 2020, January 2021, June/August 2021, and January 2022 \(USHG only\)](#).

### 7. شہری امور سے متعلق تیاری کی مہر

تعلیمی سال 2021-22 کے دوران ریاست نیویارک کے مخصوص سکول شہری امور سے متعلق تیاری کی مہر کی جانچ کریں گے۔ حوالہ کے لیے ملاحظہ فرمائیں: [Civic Readiness Initiative](#).

### 8. فیملی کے لیے ذرائع

تین فلائرز، ایک ٹریکنگ ٹول اور پریزنٹیشن کا مواد طالب علموں اور ان کے خاندانوں کو ریاست نیویارک کی ڈپلومہ سے متعلق شرائط کو سمجھنے کے لیے دستیاب ہے۔ حوالہ کے لیے ملاحظہ فرمائیں: [Understanding NYS Diploma Requirements ~ Family Resources](#)۔ فلائرز اور ٹریکنگ ٹولز 11 مختلف زبانوں میں ترجمہ کیے گئے ہیں۔

